

چھٹیاں کیسے گزاریں؟

- وقت کی اہمیت کو کیسے اجاگر کیا جاتا ہے؟
- وقت کو قیمتی بنانے کے 9 طریقے کیا ہیں؟
- چھٹیاں بہتر سے بہتر بنانے کے لیے منصوبہ بندی کیسے کریں؟
- چھٹیوں میں ایک طالب علم کیا کیا سیکھ سکتا ہے؟
- چھٹیوں میں گناہوں سے بچنے کے لیے کیا تدابیر اختیار کی جاسکتی ہیں؟
- عوام کو دین سکھانے پھیلانے کی کیا کیا شکلیں اختیار کی جاسکتی ہیں؟
- حقوق اللہ، حقوق العباد اور ذاتی حقوق ان سب کی ادائیگی میں توازن کیسے قائم کیا جائے؟
- والدین کے حقوق، آپس کی رشتہ داریاں کیسے نبھائی جائیں؟

صفتی منیر احمد صاحب

چھٹیاں کیسے گزاریں؟



صفتی منیر اجم کی صاحبیت



صفتی منیر اجم کی صاحبیت (حصہ ۱)
MARKAZ TALEEM-O-TARBIYAT FOUNDATION

المركز التعليم والتربية

{ جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں }

- ◀ کتاب کا نام : چھٹیاں کیسے گزاریں؟
- ◀ مرتب : مفتی منیر احمد صاحب
- ◀ واٹسپ نمبر : 0331-2607204
- (المنیمر کے واٹسپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں)
- ◀ تاریخ طباعت : جمادی الثانیہ 1444ھ جنوری 2023ء
- ◀ ناشر : المنیمر مرکز تعلیم و تربیت فاؤنڈیشن (پشاور)
- ◀ ای میل : almuneermarkaz214@gmail.com
- ◀ ویب سائٹ : almuneer.pk
- ◀ فیس بک : AlMuneerOfficial
- ◀ یوٹیوب : AlMuneer
- (مختلف کورسز کی ریکارڈنگ یہاں سے سنی جاسکتی ہے)

ملنے کا پتہ

جامعہ معہد العلوم الاسلامیہ

متصل جامع مسجد الفلاح بلاک "H" شمالی ناظم آباد، کراچی

فون نمبر: 0331-2607207 - 0331-2607204

چھٹیاں کیسے گزاریں؟

1- وقت کی اہمیت جاننے/ اجاگر کرنے کیلئے روزانہ

مطالعہ/ بیانات سننا

2- چھٹیوں کیلئے عزائم

□ پہلا عزم: یہ چھٹیاں گزشتہ چھٹیوں سے بہت اچھی گزاری رہی ہیں

□ دوسرا عزم: وقت بالکل ضائع نہیں کرنا ایک ایک سانس قیمتی

بنانا ہے

□ تیسرا عزم: چھٹیوں کے معمولات

1- وقت کی اہمیت جاننے/ اجاگر کرنے

کیلئے روزانہ مطالعہ/ بیانات سننا

(1) متاع وقت اور کاروان علم مؤلف ابن الحسن عباسی □

وقت _____ تا _____

(2) قیمة الزمن عند العلماء (عبد القناح ابو غده) وقت □

وقت _____ تا _____

(3) وقت کا صحیح استعمال (مصطفیٰ محمد طمان / ترجمہ عبد الحمید اطہر) □

وقت _____ تا _____

(4) وقت کی قدر اور علم سے پیار (مولانا روح اللہ نقشبندی) □

وقت _____ تا _____

(5) تحفہ وقت (شیخ شفیق الرحمن درآوی) □

وقت _____ تا _____

(6) منتخب احادیث سے لایینی کا باب □

وقت _____ تا _____

(7) سوانح _____ کا مطالعہ □

وقت _____ تا _____

وقت کی اہمیت

{5}

چھٹیاں کیسے گزاریں؟

(8) وقت کی اہمیت سے متعلق بیانات سننا □

حضرت _____ صاحب

_____ وقت _____ تا _____

حضرت _____ صاحب

_____ وقت _____ تا _____

حضرت _____ صاحب

_____ وقت _____ تا _____

MARKAZ TALEEM-Q-TARBIYAT FOUNDATION
MARKAZ TALEEM-Q-TARBIYAT FOUNDATION
MARKAZ TALEEM-Q-TARBIYAT FOUNDATION

MARKAZ TALEEM-Q-TARBIYAT FOUNDATION
MARKAZ TALEEM-Q-TARBIYAT FOUNDATION
MARKAZ TALEEM-Q-TARBIYAT FOUNDATION

MARKAZ TALEEM-Q-TARBIYAT FOUNDATION
MARKAZ TALEEM-Q-TARBIYAT FOUNDATION
MARKAZ TALEEM-Q-TARBIYAT FOUNDATION

MARKAZ TALEEM-Q-TARBIYAT FOUNDATION
MARKAZ TALEEM-Q-TARBIYAT FOUNDATION
MARKAZ TALEEM-Q-TARBIYAT FOUNDATION

MARKAZ TALEEM-Q-TARBIYAT FOUNDATION
MARKAZ TALEEM-Q-TARBIYAT FOUNDATION
MARKAZ TALEEM-Q-TARBIYAT FOUNDATION

MARKAZ TALEEM-Q-TARBIYAT FOUNDATION
MARKAZ TALEEM-Q-TARBIYAT FOUNDATION
MARKAZ TALEEM-Q-TARBIYAT FOUNDATION

2- چھٹیوں کیلئے میرے عزم

□ پہلا عزم:

یہ چھٹیاں گزشتہ چھٹیوں سے بہت اچھی گزارنی ہیں □ حسب سابق ہی صحیح ہے

□ پہلے سے کچھ نا کچھ بہتر □

□ دوسرا عزم:

وقت بالکل ضائع نہیں کرنا ایک ایک سانس قیمتی بنانا ہے □ حسب سابق ہی صحیح ہے □

□ پہلے سے کچھ نا کچھ بہتر کرنا ہے □

(1) غیر ضروری تعلقات، مشغولیتیں، بالکل ختم کرنی ہیں □ حسب سابق ہی صحیح

□ ہے □ پہلے سے کچھ نا کچھ بہتر کرنا ہے □

تفصیل لکھیں:

(2) موبائل کا غیر ضروری استعمال بالکل ختم کرنا ہے □

تفصیلات لکھیں:

چھٹیاں کیسے گزاریں؟

{7}

چھٹیاں بہتر بنانے کے لیے عزم

(3) کھانے پینے میں بہت زیادہ خواہشات (باہر جانا/من پسند کا پکوانا/خریداری) میں بالکل نہیں لگنا حسب سابق ہی صحیح ہے پہلے سے کچھ بہتر کرنا ہے تفصیل لکھیں:

(4) غیر ضروری سونا بالکل ختم کرنا ہے حسب سابق ہی صحیح ہے پہلے سے کچھ نا کچھ بہتر کرنا ہے تفصیل لکھیں:

(5) جو ضروری کام ہیں ان کو بوقت ضرورت بقدر ضرورت کرنے کی کوشش کرنی ہے

(6) ناشتہ کے اوقات: _____ تا _____

دوپہر کے کھانے کے اوقات: _____ تا _____

رات کھانے کے اوقات: _____ تا _____

(7) سونے کے اوقات: _____ تا _____

(8) روزانہ سودا سلف کی خریداری کے اوقات _____ تا _____

(9) دیگر خدمتوں سے متعلق اپنے معمولات/ اوقات لکھیں:

□ تیسرا عزم:

چھٹیوں کے معمولات (دین سیکھنا/صلاحیتوں مہارتوں میں اضافہ کرنا/عمل کرنا/پھیلاؤ/گناہوں سے بچنا/حقوق و ذمہ داریاں پوری کرنا) اہتمام سے اور آسانی سے پورے ہو جائیں اس کے لیے چھٹیوں سے قبل ہی ان معمولات کی باریک بینی/ماہرین/اساتذہ کرام/اہل فن کے مشورے سے منصوبہ بندی کرنی ہے وقتاً فوقتاً ان سے مشورہ کرتے رہنا، کارگزاری سناتے رہنا ہے

□ حسب سابق ہی صحیح ہے □

(1) تفصیل لکھیں کیا کیا سیکھنا ہے؟ اور سیکھنے کیلئے روزانہ کتنا وقت نکالنا ہے؟
1/1) علمی کمزوریاں دور کرنے کا نظم لکھیں:

1/2) یہ دورہ _____ کرنا ہے

حضرت مولانا _____ مدرسہ _____

1/3) قرآن: حفظ پختہ کرنا ہے □

تفصیل لکھیں:

یہ سورتیں حفظ کرنی ہیں:

تجوید درست کرنی ہے □ بذریعہ استاذ □ بذریعہ ریکارڈنگ □

چھٹیاں کیسے گزاریں؟ {9} چھٹیاں بہتر بنانے کے لیے عزم

1/4) حدیث: اتنی _____ حدیثیں حفظ کرنی ہیں:

کتاب _____ مؤلف _____ سے۔

کتاب _____ مؤلف _____ سے۔

1/5) یہ دعائیں یاد کرنی ہیں: _____

1/6) اردو، عربی اشعار یاد کرنے ہیں:

1۔ اردو اشعار کتاب _____ سے اتنے _____

کتاب _____ سے اتنے _____ کتاب _____ سے اتنے _____

1۔ عربی اشعار کتاب _____ سے اتنے _____

کتاب _____ سے اتنے _____ کتاب _____ سے اتنے _____

1/7) خارجی مطالعہ کرنا ہے:

ان کتب کا _____

1/8) موقع کا علم سیکھنا ہے:

1۔ روزے کے مسائل اس کتاب سے _____

2۔ تراویح کے مسائل اس کتاب سے _____

3۔ اعتکاف کے مسائل اس کتاب سے _____

4۔ زکوٰۃ کے مسائل اس کتاب سے _____

5۔ عید الفطر کے احکام اس کتاب سے _____

چھٹیاں کیسے گزاریں؟ {10} چھٹیاں بہتر بنانے کے لیے عزم

(1/9) اگلے سال کی ان کتب/ احوالِ مصنفین/ فن کا مطالعہ کرنا ہے:

(1/10) ان موضوعات پر تحقیقی کام کرنا ہے:

(1/11) ان موضوعات پر ریکارڈنگ سنی ہیں:

(1/11) مزید کوئی بات ہو تو لکھیں:

(2) عبادت، تلاوت، ذکر، دعا، نوافل، اللہ والوں کی صحبت کے معمولات
تفصیل سے لکھیں:

(2/1) خانقاہ میں وقت لگانا ہے □ کہاں؟ کتنا؟
اللہ والوں/ اپنے اساتذہ سے ملاقاتیں، اپنی مادر علمی میں آتے جاتے رہنا اُس کا نظم:

2/2) اعتکافِ مسنون کرنا ہے نفلی اعتکاف کرنا ہے _____ دن

2/3) عبادات کے معمولات:

(ایک مسلمان اپنی زندگی ایسے سنواریں والے پرچے میں لکھیں)

2/4) اخلاق کے معمولات:

(ایک مسلمان اپنے اخلاق ایسے سنواریں والے پرچے میں لکھیں)

2/5) رمضان کے معمولات:

(رمضان کے معمولات والے پرچے میں لکھیں)

2/6) مزید کوئی بات ہو تو لکھیں:

(3) دین سکھانے / پھیلانے (اہل و عیال / ماتحتوں / طلب والوں / بے طلبوں کو)

کے معمولات تفصیل سے لکھیں:

3/1) تبلیغ: تبلیغ میں وقت لگانا ہے کتنا؟ _____

پانچ اعمال (تعلیم، گشت، مشورہ، شب جمعہ، روزانہ وقت دینا) میں اہتمام سے جڑنا ہے

3/2) تعلیم: مختلف طبقات کو موقع کا / ان کے شعبہ کا علم سکھانا ہے خاص طور سے ایام

اعتکاف میں کیا سکھا سکتے ہیں؟

1- تجوید 2- ترجمہ تفسیر 3- فہم دین کورس سے بنیادی مسائل

4- فہم زکوٰۃ 5- فہم رمضان 6- فہم اعتکاف

7- مالی معاملات اور اخلاقی تعلیمات

8- بچوں کو حکایات واقعات کے ذریعہ دین سکھانا ہے

چھٹیاں کیسے گزاریں؟

{12}

چھٹیاں بہتر بنانے کے لیے عزم

3/3) گھر والوں کی تعلیم: گھر والوں کو کیا سکھانا ہے؟

3/4) نمازیوں کے ساتھ نشست: مسجد میں کسی بھی نماز کے بعد اگر موقع میسر ہو تو

کتاب سے/زبانی بات کرنا

3/5) کام کرنے والوں کا معاون بننا: جہاں خود کام کرنے کے مواقع نہ ہوں وہاں

پہلے سے کام کرنے والوں کا معاون بنانا کے ساتھ چڑ کر کام کرنا:

3/6) اپنی مادر علمی کے تعلیمی/ تربیتی امتیازات کا تعارف کرا کے وہاں داخلہ کے لیے

آمادہ کرنا ہے □

3/7) مزید کوئی بات ہو تو لکھیں:

4) حقوق (ذاتی / اہل و عیال / رشتہ دار / متعلقین وغیرہ) کی ادائیگی کے معمولات

تفصیل سے لکھیں:

4/1) ورزش/کھیل کے اوقات

4/2) والدین کو روزانہ وقت دینا

ان کاموں میں ہاتھ بٹانا

چھٹیاں کیسے گزاریں؟

{13}

چھٹیاں بہتر بنانے کے لیے عزم

4/3) رشتہ داروں/متعلقین (عیادت/تعزیت، خوشی/غمی میں شرکت) سے ملاقات کا نظم:

4/4) علاقہ کے علماء کرام/جان پہچان والوں سے ملاقات کا نظم:

4/5) مزید کوئی بات ہو تو لکھیں:

(5) گناہوں سے بچنے کیلئے کیا تدابیر اختیار کرنی ہیں تفصیل سے لکھیں:

5/1) گناہ ہونے کے بعد فوراً کسی نیکی (خاص طور سے صدقہ) کا اہتمام کرنا □
فوراً سچی توبہ کرنا □

5/2) گناہ چھوڑنے کی اللہ تعالیٰ سے گڑگڑا کر توفیق مانگنا □

5/3) جن مقامات، محفلیں، دوست و احباب، آلات کی صحبت گناہ کا سبب بنتی ہیں ان کو چھوڑنے کا اہتمام کرنا □

5/4) گناہوں کو چھوڑنے کے سلسلہ میں کسی اللہ والے سے رابطہ کرنا اور اپنے حالات ان کو بتا کر ان کی باتوں پر عمل کرنا □

5/5) گناہوں کا علم ہونے کے بعد ان کو روکنے کا اہتمام کرنا □

5/6) مباح کاموں یعنی کھانے پینے، باتیں کرنے، ہنسنے ہنسانے، سونے، فضول ملنے ملانے، گھومنے گھمانے میں خواہشات کو ترک کرنا □

چھٹیاں بہتر بنانے کے لیے عزم

{14}

چھٹیاں کیسے گزاریں؟

5/7) گناہوں کی خواہش نیز عبادات، اتباع، سنت، اخلاقیات میں رکاوٹ بننے

والی خواہش کو ترک کرنا □

5/8) مزید کوئی بات ہو تو لکھیں:



مفتی منیر احمد صاحب کی مطبوعہ تالیفات و رسائل



مفتی منیر احمد صاحب نے کئی قابل قدر اور اہم موضوعات پر کورسز مرتب فرمائے ہیں۔ جن پر کئی اکابر علماء کرام نے اعتماد کا اظہار کیا ہے، یہ کورسز لوگوں میں بہت مقبول ہیں، جن سے عوام کو خوب فائدہ ہو رہا ہے۔ ائمہ و خطباء حضرات اپنے علاقوں میں حسب موقع دینی تعلیم اور تربیت کے لیے ان قابل قدر اور مختصر کورسز کا انتخاب کر سکتے ہیں۔